


QUICK START CARD




14

Toggle Output Settings

Asus/Dell	[Fn] + [F8]
Acer/Toshiba	[Fn] + [F5]
Gateway	[Fn] + [F4]
HP/Compaq	[Fn] + [F4]
IBM/Lenovo	[Fn] + [F7]
NEC	[Fn] + [F3]

Mac Apple :
System Preferences ⇒ Display ⇒ Arrangement ⇒ Mirror display




QUICK START CARD

15

Adjust Zoom
Régler le zoom
Passen Sie den Zoom an
Ajuste el zoom
Regolare lo Zoom
Ajuste do zoom
Pas de zoomfactor aan

Wyreguluj Powiększenie.
Настройте масштаб
Projektorin zoomin säätö
Justera zoom
Juster zoom
Juster Zoom
Προσαρμύη Ζουμ



Zoom beállítása
Upravit zoom
ປຶນໝູນ
Zumu ayarlayınız
調整變焦
調整變焦
[ズーム]調整
음 조절
موزلا طبعين



16

Adjust Focus
Régler la mise au point
Stellen Sie den Fokus ein
Ajuste el enfoque
Regolare la messa a fuoco
Ajuste da focagem
Pas de scherpstelling aan
Wyreguluj Ostrość
Настройте фокусировку
Projektorin tarkennuksen säätö
Justera fokus

Juster fokus
Juster Fokus
Προσαρμύη Εστίασης
Élességállitás
Upravit zaostření
ປຶນໄຟຟ້ສ
Fokúsu Ayarlayınız
調整對焦
Настройте фокусировку
[フォーカス]調整
초점 조절
قريبلا طبعين



Warning!

English

- ❑ Avoid staring directly into the projector beam at all times.
- ❑ Minimize standing facing into the beam. Keep your back to the beam as much as possible.

Français

- ❑ Evitez à tout moment de regarder directement vers le faisceau du projecteur.
- ❑ Minimisez le temps passé face au faisceau. Restez dos au faisceau autant que possible.

Deutsch

- ❑ Nicht direkt in den Projektor-Lichtstrahl schauen.
- ❑ Vermeiden Sie, mit dem Gesicht zum Projektor-Lichtstrahl zu stehen. Stehen Sie mit dem Rücken zum Projektor-Lichtstrahl.

Español

- ❑ No mire al haz del proyector en ningún momento.
- ❑ Permanezca el mínimo tiempo posible de cara al haz. Dé la espalda al haz siempre que sea posible.

Italiano

- ❑ Evitare sempre di guardare direttamente il raggio del proiettore.
- ❑ Evitare il più possibile di stare di fronte al raggio. Tenersi dietro al raggio per quanto possibile.

Portugués

- ❑ Evite olhar directamente para a luz do projector seja em que circunstância for.

- ❑ Evite ficar voltado de frente para a luz proveniente do projector. Mantenha-se de costas para a luz do projector o máximo possível.

Nederlands

- ❑ Vermijd op elk ogenblik rechtstreeks in de straal van de projector te kijken.

- ❑ Ga zo weinig mogelijk in de straal staan. Houd zo veel mogelijk uw rug naar de straal gericht.

Polski

- ❑ Należy unikać bezpośredniego, stałego patrzenia na wiązkę światła projektora.

- ❑ Należy zminimalizować stawanie przodem do światła projektora. Należy najczęściej na ile to możliwe ustawiać się tyłem do wiązki światła projektora.

Русский

- ❑ Никогда не смотрите прямо на луч проектора.
- ❑ Старайтесь не стоять лицом к лучу. Как можно чаще поворачивайтесь спиной к лучу.

Suomi

- ❑ Vältä katsomasta suoraan projektorin valonsäteeseen.
- ❑ Seiso mahdollisimman vähän kasvoit kohti sädettä. Pidä selkäsi sädettä kohti niin paljon kuin mahdollista.

www.optoma.com

Optoma

Svenska

- ❑ Undvik alltid att titta direkt in i projektorstrålen.
- ❑ Stå så lite som möjligt vänd mot strålen. Håll din rygg mot strålen så mycket som möjligt.

Dansk

- ❑ Se aldrig direkte ind i projektorstrålen.
- ❑ Undgå så vidt muligt at stå vendt mod strålen. Vend ryggen til strålen så vidt muligt.

Ελληνικά

- ❑ Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα.
- ❑ Ελαχιστοποιήστε τις στιγμές που κοιτάτε στην ακτίνα. Έχετε τη πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Magyar

- ❑ Soha ne tekintsen közvetlenül a sugárba.
- ❑ Minimalíslra csökkentse a sugárral szemben töltött időt. Lehetőleg háttal álljon a sugárnak.

Čeština

- ❑ Nedívejte sedělí dobu přímo do proudu světla z projektoru.
- ❑ Odvracejte tvář co nejvíce od proudu světla. Odvracejte se co nejvíce zády do proudu světla.

ไทย

- ❑ หลีกเลี่ยงการมองที่ลำแสงไปจกโดยตรงโดยตงทุกครั้ง
- ❑ หลีกเลี่ยงการยืนหันหน้าเข้าหาลำแสงให้น้อยที่สุด ไม่ใช้หลังหันเข้าหาลำแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Türkçe

- ❑ Projektor ışık kaynağı içerisine direkt olarak bakmayınız.
- ❑ Projektor ışık kaynağı yüzünüze gelecek şekilde durmayın. Işık kaynağına karşı olabildiğince arkanız dönük konulmaktır.

繁體中文

- ❑ 請勿直視鏡頭內部。
- ❑ 請避免直接面對投影機光束並盡可能背對直接照射。

简体中文

- ❑ 请勿直视镜头内部。
- ❑ 请避免直接面对投影机光束并尽可能背对直接照射。

日本語

- ❑ プロジェクタの光源に直接注視しないでください。
- ❑ プロジェクタの光源に向いて立たないでください。出来る限り、離れてください。

한국어

- ❑ 프로젝터 빛을 직접 응시하지 말아 주십시오.
- ❑ 빛줄을 향하여 서는 행동을 피하여 주시고 가능한하면 빛을 등지고 사용하시기 바랍니다.

تنبیه و تحذیر

❑ لطفاً، قوت پرتو نور را مستقیماً به چشم خود نگاه نکنید و در تمام اوقات از نگاه کردن مستقیم به نور پرتو نور اجتناب کنید. هر چه می‌توانید، پشت خود را به نور پرتو نور بگردانید. ❑ لطفاً، ایستادن در مقابل نور پرتو نور را تا حد امکان کاهش دهید. ❑ لطفاً، هرگز مستقیماً به نور پرتو نور نگاه نکنید. ❑ لطفاً، هرگز مستقیماً به نور پرتو نور نگاه نکنید. ❑ لطفاً، هرگز مستقیماً به نور پرتو نور نگاه نکنید.